



سوال

(57) ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہوا الخ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہوا اور برس روز کا یا زیادہ کا ہوگا۔ تو قربانی و عقیقہ اس بچہ کا درست ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہوا اگر وہ مشابہ ہرن کے ہے تو اس کی قربانی و عقیقہ ناجائز ہے اور اگر وہ مشابہ ہرن کے نہ ہو تو اس کی قربانی و عقیقہ جائز ہے۔ لیکن دو برس سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ (سید عبد الحفیظ عفی عنہ) (سید محمد نذیر حسین) (فتاویٰ نذیریہ جلد 2 ص 443)

ہوا لشفق واضح کہ ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہوا اگر وہ بکری سے تو قربانی درست ہے۔ اور اگر بکری نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

یہی قول حق معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بکری قربانی کا حکم ہے۔ اور ہر کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر ایسا بچہ پیدا ہوا کہ نہ تو اسے بکری کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ ہرن تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ واللہ اعلم

کتبہ۔ محمد عبد الرحمن المبارک فوری عفا اللہ عنہ (فتاویٰ نذیریہ جلد 2 ص 443)

خدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 13 ص 154-155

محدث فتویٰ